



قائد اعظم ٹرافی فرسٹ ایون کے پانچویں راؤنڈ کا دوسرا روز مکمل

کراچی ، 27 نومبر 2020ء

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں خیبر پختونخواہ نے ناردرن کے خلاف پہلی اننگز میں دوسرے روز کھیل کے اختتام تک 7 وکٹیں کھونے کے بعد 249 رنز بنا لیے۔ خالد عثمان 59 اور محمد وسیم 20 رنز کے ساتھ تیسرے روز کھیل کا آغاز کریں گے۔ کامران غلام نے 67 رنز کی اننگز کھیلی۔ انہوں نے 110 گیندوں کا سامنا کیا ان کی اننگز میں 9 چوکے شامل تھے۔ منیر ریاض 91 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس سے قبل ناردرن نے دوسرے روز 371 رنز 5 وکٹوں کے نقصان پر کھیل کا آغاز کیا اور 460 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ڈیکلئیر کر دی۔ آصف علی 45 گیندوں پر 52 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ان کی اننگ میں 4 چوکے اور دو چھکے شامل تھے۔ فیضان ریاض نے آصف علی کے ساتھ اپنے انفرادی اسکور 124 رنز سے کھیل کا آغاز کیا اور 146 رنز پر ارشد اقبال کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے 189 گیندوں کا سامنا کیا اور 18 چوکے اور ایک چھکا مارا۔ خیبر پختونخواہ کے ارشد اقبال اور زوبیب خان نے تین تین وکٹیں حاصل کیں۔

یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں سنٹرل پنجاب اور سدرن پنجاب کی ٹیموں کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے۔ دوسرے روز جب کھیل ختم ہوا تو سنٹرل پنجاب نے پہلی اننگز میں 2 وکٹوں پر 136 رنز بنا لیے تھے۔ عثمان صلاح الدین 18 اور محمد سعد 9 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ علی زریاب نے 67 اور احمد شہزاد نے 33 رنز بنائے۔ بلاول بھٹی اور زاہد محمود نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل سدرن پنجاب نے 272 رنز پانچ کھلاڑی آؤٹ کے ساتھ دوسرے روز اپنی پہلی اننگز کا دوبارہ آغاز کیا۔ اور 7 وکٹوں پر 527 رنز بنا کر اننگز ڈیکلئیر کر دی۔ گزشتہ روز کے ناٹ آؤٹ بیٹسمینوں نے سنچریاں بنائیں۔ خاص طور پر سلمان علی آغا نے ایک بھر پور اننگز کھیلی۔ انہوں نے 183 گیندوں پر 169 رنز بنائے اور

رن آؤٹ ہوئے۔ ان کی اننگز میں 21 چوکے اور تین چھکے شامل تھے محمد عمران نے انکا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ 100 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ انہوں نے 143 گیندوں کا سامنا کیا۔ اس سے قبل گزشتہ روز عمر صدیق نے 94 رنز بنائے تھے۔ سنٹرل پنجاب کے احمد صفی، وقاص مقصود اور حسن علی نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔

اسٹیٹ بینک اسٹیڈیم میں سندھ اور بلوچستان کی ٹیموں کے درمیان میچ جاری ہے۔ دوسرے روز جب کھیل ختم ہوا تو سندھ نے پہلی اننگز میں ایک وکٹ کھو کر 175 رنز بنا لیے ہیں۔ عمیر بن یوسف 74 اور سعود شکیل 67 کے اسکور کے ساتھ تیسرے روز کے کھیل کا آغاز کریں گے۔ اس سے قبل بلوچستان نے 333 رنز 3 کھلاڑیوں کے نقصان پر دوسرے روز کھیل کا آغاز کیا۔ انہوں نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 458 رنز بنا کر اننگز ڈیکلئیر کر دی گزشتہ روز کے 155 رنز ناٹ آؤٹ بیٹسمین اکبر الرحمان 164 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے انکی اننگز میں 13 چوکے اور 4 چھکے بھی شامل تھے ان کے ساتھ دوسرے ناٹ آؤٹ بیٹسمین ایاز تصور تھے جنہوں نے سنچری بنائی۔ انہوں نے 67 رنز سے کھیل کا آغاز کیا وہ 138 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ شاہنواز دھانی نے چار جبکہ ابرار احمد نے تین وکٹیں لیں۔

HELP PREVENT CORONAVIRUS



National Team Partners



Domestic Partners



- www.pcb.com.pk
- @therealpcb
- @PakistanCricketBoard
- @PakistanCricketOfficial
- @therealPCB

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozepur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4